



**PHILIP MORRIS  
(PAKISTAN) LIMITED**

**Office no 04 & 05, 5th Floor, Corporate Office Block, Dolmen  
City, Plot HC-3, Block 4, Clifton, Karachi**

## **TERMS, CONDITIONS AND PROCEDURE FOR PURCHASE OF 1,444,931 SHARES OF PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED BY PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.**

This is to inform all the minority shareholders that Philip Morris Investments B.V., ("PMIBV") one of the sponsors and the majority shareholder of Philip Morris (Pakistan) Limited ("the Company") has decided to purchase all the shares of the Company held by others (other than those held by the other sponsor, namely Philip Morris Brands SARL "PMBS"). The shareholders of the Company passed a special resolution for delisting of the Company from the Pakistan Stock Exchange at the Extraordinary General Meeting held on July 24, 2025. A copy of the Special Resolution is being sent to the shareholders separately.

Below are the terms, conditions and procedures set out for purchase of the shares of the Company by PMIBV.

1. PMIBV is offering to buy the shares of the Company at a price of PKR 1,300 per share. This purchase price has also been approved by the Pakistan Stock Exchange Limited in accordance with its rules.
2. The share purchase offer will be valid from August 1, 2025 to September 29, 2025, both days inclusive. After this period, it is intended that the Company will be delisted from the Pakistan Stock Exchange Limited.
3. This offer is valid for all shareholders of the Company (except the other sponsor, namely PMBS) i.e. those shareholders holding physical share certificates and those shareholders whose shares are held as book-entry securities in the Central Depository System of the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC).

### **4.1 Physical Shares**

In order to avail the offer, shareholders need to send (by either registered mail or courier service) or personally take the following documents to our authorized Purchase Agent Topline Securities Limited, 8th Floor, Horizon Tower, Plot # 2/6, Block-3, Clifton, Karachi.

- I. For registered shareholders:
  - Share certificates with verified transfer deeds
- II. For shareholders with open transfer deeds:
  - Share certificates with verified transfer deeds
  - Copy of Computerized National Identity Card of the person who owns the shares

Shareholders will also provide their bank account details and email addresses along with the aforementioned documents.

The Purchase Agent will issue a receipt in exchange for the above documents. Once the share certificates, transfer deeds and other documents have been verified by the Company's Shares Department/Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400, Pakistan and email address [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com), shareholders will be requested to collect payment for their shares at the rate of Rs. 1,300 per share less the TREC Holder's commission from the Purchase Agent.

Payment to the shareholders will be made through cross cheque within three weeks of transfer and registration of the physical shares in the name of PMIBV.

### **4.2 Shares through the CDC**

The Purchase Agent would purchase the shares through the trading system of the Pakistan Stock Exchange. Payment to sellers will be made as per the Clearing Schedule notified by the Pakistan Stock Exchange.

**DATE: July 30, 2025**



PHILIP MORRIS  
(PAKISTAN) LIMITED

آفس 04 اور 05، پانچویں منزل، کارپوریٹ آفس بلاک، ڈومین سٹی، پلاٹ 3-HC، بلاک 4، کلفٹن، کراچی

## فلپ مورس انوسٹمنٹس بی وی کے ذریعے فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ کے 1,444,931 حصص کی خریداری کے لیے شرائط، ضوابط اور طریقہ کار

تمام اقلیتی شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی") کے اسپانسرز میں سے ایک اور اکثریتی شیئرز ہولڈرز فلپ مورس انوسٹمنٹس بی وی، ("PMIBV") نے کمپنی کے تمام حصص خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جو دوسرے اسپانسر کے پاس ہیں (علاوہ اُس کے جو دوسرے اسپانسر یعنی فلپ مورس برانڈز ایس اے آر ایل "پی ایم بی ایس" کے پاس ہیں)۔ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز نے 24 جولائی 2025ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے کمپنی کی ڈی لسٹنگ کے لیے ایک خصوصی قرارداد پاس کی۔ خصوصی قرارداد کی ایک کاپی شیئرز ہولڈرز کو الگ سے بھیجی جا رہی ہے۔

PMIBV کی جانب سے کمپنی کے حصص کی خریداری کے لیے مقرر کردہ شرائط، ضوابط اور طریقہ کار ذیل میں درج ہیں:

1. PMIBV کمپنی کے حصص -/1,300 روپے فی حصص کی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کر رہی ہے۔ اس قیمت خرید کی منظوری بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ نے اپنے قواعد کے مطابق دے دی ہے۔
2. حصص کی خریداری کی پیشکش 01 اگست 2025ء سے 29 ستمبر 2025ء تک بشمول دونوں دن کارآمد رہے گی۔ اس مدت کے بعد، یہ توقع ہے کہ کمپنی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے خارج یعنی ڈی لسٹ کر دیا جائے گا۔
3. یہ پیشکش کمپنی کے تمام شیئرز ہولڈرز (ماسوا دوسرے اسپانسر یعنی PMBS) کے لیے ہے یعنی وہ شیئرز ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس ہیں اور وہ شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں بک اینیٹری سکورٹیز کے طور پر رکھے گئے ہیں۔

### 4.1 فزیکل شیئرز

پیشکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے، شیئرز ہولڈرز کو فزیکل شیئرز (یا تو رجسٹرڈ میل یا کوریئیر سروس کے ذریعے) بھیجنے ہوں گے یا درج ذیل دستاویزات ہمارے مجاز پریچر ایجنٹ ٹاپ لائن سکوریٹیز لمیٹڈ، آٹھویں منزل، ہورائزن ٹاور، پلاٹ نمبر 2/6 بلاک-3، کلفٹن، کراچی کے پاس ذاتی طور پر لے کر جانا ہوں گے:

- I. رجسٹرڈ شیئرز ہولڈرز کے لیے:
  - شیئرز سرٹیفکیٹس مع تصدیق شدہ ٹرانسفر ڈیڈز
  - II. اوپن ٹرانسفر ڈیڈز والے شیئرز ہولڈرز کے لیے:
    - شیئرز سرٹیفکیٹس مع تصدیق شدہ ٹرانسفر ڈیڈز
    - حامل شیئرز حصص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی

شیئرز ہولڈرز مذکورہ بالا دستاویزات کے ساتھ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور ای میل ایڈریسز بھی فراہم کریں گے۔

پریچر ایجنٹ درج بالا دستاویزات کے عوض ایک رسید جاری کرے گا۔ جب شیئرز سرٹیفکیٹس، ٹرانسفر ڈیڈز اور دیگر دستاویزات کی تصدیق کمپنی کے شیئرز ڈپازٹمنٹ/رجسٹر اری ڈی سی شیئرز رجسٹر اری سوسر لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400، پاکستان اور ای میل ایڈریس info@cdcsrslcom کی جانب سے کر دی جائے گی، شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جائے گی کہ وہ -/1,300 روپے فی شیئر TREC ہولڈرز کے کمیشن سے کم کی شرح سے اپنے شیئرز پریچر ایجنٹ سے وصول کر لیں۔ شیئرز ہولڈرز کو PMIBV کے نام پر فزیکل شیئرز کی منتقلی اور رجسٹریشن کے بعد تین ہفتوں کے اندر کر اس چیک کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔

### 4.2 شیئرز بذریعہ ڈی سی

پریچر ایجنٹ حصص کی خریداری پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تجارتی نظام کے ذریعے کرے گا۔ شیئرز فروخت کنندگان کو رقم کی ادائیگی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بنائے اور بتائے گئے کلیئرنگ شیڈول کے مطابق کی جائے گی۔

تاریخ: 30 جولائی 2025ء